



دفتر مقام معظم رہبری
www.leader.ir

رببر معظم انقلاب اسلامی کی امامت میں نماز عید سعید فطر کی ادائیگی - 24 / Oct / 2006

ایران کے مؤمن و موحد عوام نے آج ایک ماہ کی عبادت و بندگی بجالانے کے بعد شکر ادا کرتے ہوئے پورے ملک میں نماز عید فطر کے اجتماعات میں شرکت کی۔

تہران میں مصلی امام خمینی (رہ) میں تہران کے لاکھوں مؤمنین نے اس قومی اور معنوی اجتماع میں شرکت کی اور رببر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی خامنہ ای کی امامت میں نماز عید فطر ادا کی۔

رببر معظم نے نماز فطر کے خطبوں میں عید سعید فطر کی مناسبت سے تمام مسلمانوں بالخصوص ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کی اور اس سال کے ماہ رمضان المبارک کو مختلف سیاسی اور معنوی میدانوں میں ایرانی عوام کے شوق و نشاط اور طراوت کا مظہر قرار دیتے ہوئے فرمایا: اس مہینے میں حاصل ہونے والے معنوی فوائد کی حفاظت، تقویت اور خداوند متعال سے ارتباط کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں کوشش جاری رکھنی چاہیے۔

رببر معظم نے پورے ملک میں عالمی یوم قدس کے موقع پر عظیم عوامی ریلیوں کو ایرانی عوام کے سیاسی نشاط و طراوت کا مظہر قرار دیتے ہوئے فرمایا: فلسطینی عوام کی حمایت میں ایرانی عوام کی طاقتور صدا اور فریاد کا خدا کے فضل و کرم سے پورے عالم اسلام اور بعض دوسرے ممالک میں بھی شاندار اثر ہوا اور اس طراوت و نشاط میں حزب اللہ لبنان کی کامیابی اور فتح نے بھی تازہ روح پھونکی ہے۔

رببر معظم نے اس سال ماہ رمضان میں دعا و توسل اور راز و نیاز کی محافل میں عوام بالخصوص جوانوں کی شرکت اور شب بیداری و عبادت کو بہت ہی دلکش و باصفا قرار دیتے ہوئے فرمایا: ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی مختلف معنوی مراسم میں شرکت سے ان کے دلوں بالخصوص جوانوں کو نورانیت عطا ہوئی ہے اور خداوند متعال کی اس عظیم نعمت کی حفاظت اور خدا سے ارتباط کو مضبوط بنانے کی جد و جہد کا سلسلہ جاری اور اسے مختلف شعبوں میں کامیابی کا حصول قرار دینا چاہیے۔

رببر معظم نے دوسرے خطبے میں اسلامی بلدیاتی کونسلوں اور خبرگان کونسل کے انتخابات کی اہمیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا: خبرگان کونسل اور بلدیاتی کونسلوں کے انتخابات میں بھرپور شرکت تمام افراد کے لئے



ضروری ہے۔

رہبر معظم نے خبرگان کونسل کے انتخابات کو حساس اور بڑی اہمیت کا حامل قرار دیا اور اس کونسل کی دو اہم ذمہ داریوں، رہبر کے انتخاب اور اس پر نظارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اگر خبرگان کونسل رہبری کے فقدان کی صورت میں قوم کے مورد اعتماد، بصیر اور آمادہ نہ ہو تو ملک کی مدیریت میں بہت بڑی مشکل اور مضبوط گرہ لگ سکتی ہے جو کسی بھی ہاتھ سے کھل نہیں سکے گی اور اس سے خبرگان کونسل کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

رہبر معظم نے عوام کو انتخابات میں شرکت سے مایوس کرنے کی دشمنوں کی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ایران کے ہوشیار عوام نے خبرگان کونسل کے گذشتہ انتخابات میں بھرپور شرکت کر کے غیر ملکی نشریات کی تبلیغات اور ان کے شوم منصوبوں کو ناکام بنا دیا اور موجودہ اہم انتخابات میں بھی اپنی تکالیف اور ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بھرپور شرکت کریں گے اور ایک مضبوط، مستحکم اور مقتدر کونسل تشکیل دیں گے کیونکہ خبرگان کونسل جتنی مقتدر، مضبوط اور معتمد و پائدار ہوگی ملک بھی اتنا ہی مضبوط اور پائدار ہوگا

رہبر معظم نے شہری اور دیہاتی بلدیاتی کونسلوں کے انتخابات کو بھی اہم اور عوامی حکومت کا مظہر قرار دیتے ہوئے فرمایا: خبرگان کونسل اور بلدیاتی کونسلوں کے انتخابات صاف و شفاف منعقد کرانے کے لئے حکام کو اپنی تمام کوششوں کو بروی کار لانا چاہیے تاکہ انتخابات میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔

رہبر معظم نے تمام نمائندوں، احزاب اور ان کے تبلیغاتی حامیوں پر زور دیا کہ وہ انتخابات کی فضا کو پر امن و سالم بنانے کے لئے ایک دوسرے کی توہین اور تخریب سے اجتناب کریں اور تبلیغات میں بھی بے جا اخراجات سے پرہیز کریں اور انتخابات میں حریف کی توہین و تخریب جو مغربی ممالک کے انتخابات کا خصوصیت ہے اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے تاکہ عوام آزاد اور سازگار فضا میں خبرگان کونسل اور بلدیاتی کونسلوں کے لئے اپنے نمائندوں کو منتخب کرسکیں۔

رہبر معظم نے عید سعید فطر کے دوسرے خطبے میں چھ آبان سے پورے ملک میں شروع ہونے والی مردم شماری



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

کو اہم واقعہ قرار دیا اور منصوبوں اور پروگراموں کو صحیح سمت دینے کے لئے اطلاعات کو اہم قرار دیتے ہوئے فرمایا: عوام جتنی دقیق اطلاعات فراہم کریں گے ملک کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں میں کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ فراہم ہوں گے رہبر معظم نے اسی طرح اتحاد و یکجہتی کو امت اسلامیہ بالخصوص فلسطین ، عراق اور لبنان میں اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے فرمایا: اتحاد علاقائی مشکلات حل کرنے کا واحد راستہ ہے۔